



جس آدمی نہ کسی مسلمان کو آزاد کیا، اللہ اس آزاد کرد غلام کو ہر ایک عضو کو بدلے میں اس کو کسی ایک عضو کو آگ سے بچائے گا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس آدمی نہ کسی مسلمان کو آزاد کیا، اللہ اس آزاد کردہ غلام کو ہر ایک عضو کو بدلے میں اس کو کسی ایک عضو کو آگ سے بچائے گا"
[صحیح] [متفق علیہ]

اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلام کو آزاد کر کے غلامی سے نجات دلانے کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ایک اہم ترین عبادت، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا عظیم ترین ذریعہ اور آگ سے نجات حاصل کرنے کا بڑا اہم سبب ہے جب کوئی انسان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا صلہ ہے کہ اللہ اسے آگ سے آزاد کر دے، کیونکہ اللہ بدلے میں اسی نوع کا دیتا ہے، جس نوع کا عمل انسان کرتا ہے غلام آزاد کرنے والا کو آگ سے آزاد اس لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ غلام معدوم ہے تو چنانچہ اسے اپنے بارے میں تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں کچھ اسی طرح کا تصرف کیا جاتا ہے، جو جانوروں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے لہذا، اس کو غلامی سے نجات دلانا عدم سے وجود میں لانے کے مراد ہے، کیونکہ آزادی کے بعد وہ غلامی کے ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے منافع کا خود مالک بن جاتا ہے، احکام کی تکمیل کا اختیار حاصل کر لیتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں تصرف کی قدرت پا لیتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے ارادے اور اختیار کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل کر لیتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/64703>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

